

7 فروری 2018

برامپٹن فائر کا کہنا ہے: اس ویلنٹائن ڈے پر چاکلیٹس کو بھول جائیں

دھوئیں کے کارآمد الارم سے بڑھ کر کسی بھی دوسری چیز سے بہتر "آئی لو یو" نہیں کہا جا سکتا

برامپٹن، آن – اس سال بہترین ویلنٹائن کا تحفہ تلاش کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہیں؟ ایک ایسا تحفہ، جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ حقیقت میں پرواہ کرتے ہیں؟ برامپٹن فائر کے پاس ایک کم خرچ اور زیادہ اثر دکھانے والا مشورہ موجود ہے، جو آپ اپنے مقامی امپروومنٹ اسٹور سے باسانی حاصل کر سکتے ہیں۔

اپنے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر ایک کام کرنے والے دھوئیں کے الارم کی موجودگی نہ صرف قانون ہے – بلکہ یہ آپ کے پیاروں کی ہنگامی صورتحال میں حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ دھوئیں کے الارم \$20 جتنی کم قیمت پر بھی مل سکتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں، جن لوگوں کی آپ پرواہ کرتے ہیں، انہیں آگ سے متعلق کسی ہنگامی حالت میں انتہائی اہمیت کی حامل جلد تنبیہ مل جائے گی۔

برامپٹن فائر نے اس پیغام کو فروغ دینے کے لیے [ایک ویڈیو](#) بنائی ہے۔ اس سال ویلنٹائن ڈے پر وہی پرانی چاکلیٹس کو بھول جائیں - دھوئیں کے کارآمد الارم سے بڑھ کر کسی بھی دوسری چیز سے بہتر "آئی لو یو" نہیں کہا جا سکتا۔

دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ الارم کے بارے میں سادہ و مفید تجاویز:

- اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے الارم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر اسموک الارم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک الارم نصب کروائیں۔ بڑے گھروں میں اضافی اسموک الارم لگوانے چاہیں۔
- اگر آپ کے گھر میں ایندھن استعمال کرنے والے آلات، انگیٹھی یا منسلکہ گیراج موجود ہے، تو سونے والی تمام جگہوں کے باہر کاربن مونو آکسائیڈ الارم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ الارم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق کاربن مونو آکسائیڈ الارم نصب کروائیں۔
- ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ الارموں کو ٹیسٹ کریں۔ بیٹریاں ہر سال تبدیل کریں۔
- اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ الارم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی ہدایات کے مطابق پرانے الارموں کو اتار کر نئے لگوائیں۔

اقتباسات

"ہمارے رہائشیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم جانتے ہیں کہ برامپٹن کے تمام گھر کام کرنے والے دھوئیں کے الارمز کی حفاظت سے لیس نہیں ہیں۔ اس ویلنٹائن ڈے پر اپنے پیاروں کو بتائیں کہ آپ حقیقت میں ان کی پرواہ کرتے ہیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں یہ جان بچانے والی ڈیوائس موجود ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

"ہم جانتے ہیں کہ کام کرنے والے دھوئیں کے الارم زندگیاں بچاتے ہیں۔ اس ویلنٹائن ڈے پر اپنی زندگی میں اہم لوگوں کے بارے میں سوچیں اور آگ کی کسی ہنگامی صورتحال میں انہیں محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کر کے یقینی بنائیں کہ وہ جانتے ہوں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔"

ریجنل کونسلر اور چیئر، کمیونٹی اینڈ پبلک سروسز، مائیکل پیلاسشی

"آگ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ آپ کے پاس آگ سے بچ کر نکلنے کے لیے 60 سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتے ہیں، لہذا جلدی تنبیہ آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ صرف کام کرنے والے دھوئیں کے الارم آپ کو وہ تنبیہ دے سکتے ہیں۔"

- فائر چیف بل بوئیز۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654